



میں نہ آپ کو قبلہ کی بجائے دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں رسول اللہ کو ایسا کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتا

انس بن سیرین روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ شام سے جب واپس ہوئے، تو ہم ان سے عین التمر میں ملے میں نے دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا منہ قبلہ سے بائیں طرف تھا اس پر میں نے کہا کہ میں نے آپ کو قبلہ کی بجائے دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں رسول اللہ کو ایسا کرتے نہ دیکھتا، تو میں بھی نہ کرتا

[صحیح] [متفق علیہ]

انس بن مالک رضی اللہ عنہ شام تشریف لائے ان کی جلالت قدر اور علمی وسعت کی وجہ سے لوگوں نے ان کا استقبال کیا مسلم کی روایت میں "قَدِمَ الشَّامَ" یعنی جب شام تشریف لائے ہی، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے انس رضی اللہ عنہ کی شام سے واپسی پر ملاقات کی، اس روایت میں ان کے رجوع کا ذکر حذف کر دیا گیا کیوں کہ یہ بات معلوم ہے اس لیے کہ وہ سب ان کی ملاقات کے لیے بصرہ سے باہر آئے جبکہ وہ شام سے واپس ہوئے تھے راوی جو کہ استقبال کرنے والوں میں شامل تھے، کا بیان ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے، بایں طور کہ قبلہ ان کے بائیں جانب تھا راوی نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ کہ اگر انہوں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، تو وہ بھی ایسا نہ کرتے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3039>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

